

مرغی اور شاہین

## Høne og Ørn

-  Ann Nduku
-  Wiehan de Jager
-  Samrina Sana
-  urdu / bokmål
-  nivå 3

(uten bilder)



ایک دفعہ کا ذکر ہے، کہ مرغی اور شاپن دوست تھے۔ وہ باقی پرندوں کے ساتھ سکون سے رہتے۔ ان میں سے کوئی بھی اُڑ نہیں سکتا تھا۔

...

Det var en gang Høne og Ørn var venner. De levde i fred med alle de andre fuglene. Ingen av dem kunne fly.

ایک دن، زمین پر قحط پڑ گیا۔ شاہین کو دور تک چل کر کھانا ڈھونڈنا پڑا۔  
وہ تھنکی ہاری واپس آئی۔ سفر کرنے کا کوئی آسان طریقہ ضرور ہونا  
چاہیے۔ شاہین نے کہا۔

...

En gang var det hungersnød i landet. Ørn måtte gå veldig langt for å finne mat. Hun var veldig trøtt da hun kom tilbake. "Det må være en lettare måte å reise på", sa Ørn.

رات کی اچھی نہیں کے بعد، مرغی کے دماغ میں ایک زبردست خیال آیا۔ وہ اپنے پرندے دوستوں کے گمراہے ہوئے پروں کو اکٹھا کر نے لگی۔ چلو انہیں اپنے پروں کے اوپر سی لیتھی ہوں اُس نے کہا۔ شاید تب سفر کرنا آسان ہو جا۔

...

Etter en god natts søvn fikk Høne en lys idé. Hun begynte å samle sammen fjær som hadde falt fra alle fuglevennene deres. "La oss sy dem fast utenpå fjærene våre", sa hun. Kanskje det blir lettere å reise da.

گاؤں میں صرف شاہین کے پاس سوتی موجود تھی اس لیے اُس نے سب سے پہلے سینا شروع کیا۔ اُس نے اپنے لیے خوبصورت پروں کا جوڑا تیار کیا اور مرغی سے اونچا اڑی۔ مرغی نے اُس سے سوتی ادھار لی لیکن وہ سیلائی کر تے ہو آئے جلد تھک گئی۔ اُس نے سوتی کو اہماری پر رکھا اور اپنے بچوں کے لیے کھانا پکا نے باورچی خا نے چلی گئی۔

...

Det var bare Ørn i landsbyen som hadde en synål, så hun begynte først å sy. Hun lagde seg et par nydelige vinger og fløy høyt i sky. Høne lånte nålen, men ble fort trøtt av å sy. Hun la nålen i skapet og gikk for å lage mat til barna sine.

لیکن دوسرے پرندوں نے شاھین کو دور اڑا ٹے دیکھا۔ انہوں نے مرغی سے سوتی مانگی تاکہ وہ جس اپنے لیے پرتیار کر سکیں۔ جلد ہی پرندے سارے آسمان پر اڑا نے لگے۔

...

Men de andre fuglene hadde sett Ørn som fløy av gårde. De ba Høne om å få låne nålen for å sy vinger til seg selv også. Snart fløy det fugler overalt under himmelen.

جب آخری پرندے نے مانگی ہوئی سوتی واپس کی تو مرغی وہاں موجود  
نہیں تھی۔ اس لیے بچوں نے سوتی اٹھائی اور اس سے کھیلنا  
شروع کر دیا۔ جب وہ کھیل سے تھک گئے تو انہوں نے سوتی  
ریت میں چھوڑ دی۔

...

Da den siste fuglen leverte tilbake nålen de  
hadde lånt, var ikke Høne der. Så barna hennes  
tok nålen og begynte å leke med den. Da de ble  
lei av å leke, lot de nålen ligge igjen i sanden.

دوپہر کے بعد شاہین لوٹی۔ اُس نے سوتی کے لیے پوچھا  
تاکہ وہ پر مصنوعی سے جوڑ سکے جو کے سفر کے دوران  
ڈھیلے ہو گئے تھے۔ مرغی نے اہماری پر دیکھا۔ اُس نے  
باورچی خا نے میں دیکھا۔ اُس نے ارد گرد دیکھا لیکن سوتی کہیں  
نہیں ملی۔

...

Senere den ettermiddagen kom Ørn tilbake. Hun  
ba om nålen for å feste noen fjær som hadde  
løsnet på turen. Høne lette i skapet. Hun lette på  
kjøkkenet. Hun lette på gårdsplassen. Men nålen  
var ikke å se noen steder.

چھے ایک دن دے دو، مرغی نے شاہین کی میت کی پھر تم دوبارہ سے اپنے پروں کو جوڑ سکتی ہو اور کھا نے کی تلاش میں اُڑ سکتی ہو۔ صرف ایک اور دن۔ شاہین نے کہا۔ اگر تم سوئی دینے میں ناکام رہی تو تم میں اپنے ایک چوزے کو چھے دے کر قیمت چکانی ہو گی۔

...

“Gi meg bare en dag”, bønnfalt Høne Ørn. “Så kan du reparere vingen din og finne mat igjen.”  
“Bare én dag til”, sa Ørn. “Finner du ikke nålen må du gi meg en av kyllingene dine som betaling.”

جب اگلے دن شاہین آئی، اُس نے مرغی کو ریت میں پاؤں  
مار تے دیکھا لیکن سوتی نہیں ملی۔ اس لیے شاہین بہت تیزی  
سے نجیے آئی اور ایک چوزے کو اٹھا لیا۔ وہ اُسے دور اے  
گئی۔ اُس کے بعد ہمیشہ جب کبھی شاہین آتی تو وہ مرغی کو ریت میں  
پاؤں مار تے ہو تے پاتی۔

...

Da Ørn kom igjen dagen etter, så hun Høne som  
rotet i sanden, men ingen nål. Så Ørn stupte  
lynraskt ned, fanget en av kyllingene og dro av  
gårde med den. Siden den gang ser Ørn alltid at  
Høne roter i sanden etter nålen når hun dukker  
opp.

جب بھی شاہین کے پروں کا سایہ زمین پر پڑتا مرغی اپنے بچوں کو خردار کرتی کہ زمین کے خشک اور خالی حصہ سے بھاگ جاو اور وہ جواب دیتے ہم بیویوں نہیں یہیں ہم بھائیں گے۔

...

Når Ørns vinge kaster sin skygge på bakken,  
varsler Høne kyllingene sine: "Kom dere vekk fra  
den åpne plassen." Og de svarer: "Vi er ikke  
dumme. Vi skal løpe."



# Barnebøker for Norge

[barneboker.no](http://barneboker.no)

مرغی اور شاہین

## Høne og Ørn

Skrevet av: Ann Nduku

Illustret av: Wiehan de Jager

Oversatt av: Samrina Sana (ur), Finn Stranger-Johannessen (nb)

Denne fortellingen kommer fra African Storybook ([africanstorybook.org](http://africanstorybook.org)) og er videreforsmidt av Barnebøker for Norge ([barneboker.no](http://barneboker.no)), som tilbyr barnebøker på mange språk som snakkes i Norge.

Dette verket er lisensiert under en Creative Commons  
[Navngivelse 3.0 Internasjonal Lisens](#).